

Tarjuma Tul Quran Majeed - ICS Part 2 Tarjmatul Quran Chapter 4 Short Questions Test

Q1. سورہ البقرہ کس زبان کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے۔

Ans 1: سورہ البقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گائے ہے۔

Q2. سورہ البقرہ کی فضیلت بیان کریں۔

Ans 1: سورہ البقرہ بہت فضیلت والی سورت سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں یہ شخص سورہ البقرہ اور سورہ ال عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔

Q3. لفظ کے معنی تحریر کریں۔ لانفرق۔ لاتواخذنا۔ او اخطانا۔ اصرا۔

Ans 1: لانفرق۔ ہم تفریق نہیں کرتے۔ لاتواخذنا۔ تو ہماری گرفت نہ کر۔ او اخطانا۔ یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ اصرا۔ بوجھ۔

Q4. سورہ التوبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے۔

Ans 1: دوران ہجرت غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف اور مومن مجاہدین کی تعریف اور جہاد کرنے کی ترغیب کا بیان ہے۔

Q5. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔

Ans 1: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی کرتے زمین پر فساد مچاتے ہیں۔

Q6. سورہ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے۔

Ans 1: اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔

Q7. سورہ البقرہ کہاں نازل ہوئی۔

Ans 1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔

Q8. سورہ الانفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔

Ans 1: یہ سورت 2ھ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورت کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب مقامات پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنادیا گیا ہو۔ بہرحال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔

Q9. اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کرنے کا حکم کس قوم کو دیا.

Ans 1: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے.

Q10. -سورة التوبہ کب نازل ہوئی.

Ans 1: جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیات طیبہ کے آخری دور میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی.
